

ROOTWORDS SURAH HUD 1-24

فُصِّلَتْ	يُمَتَّعُكُمْ	مُسَمًّى	يُنْفُونَ	صُدُّورَهُمْ	لِيَسْتَخَفُّوا
ف ص ل	م ت ع	س م و	ث ن ي	ص د ر	خ ف ي
منفصل بیان کی گئی	وہ تم کو بہرہ مند کرے گا	مقررہ	دوہرا کرتے ہیں	اپنے سینوں کو	تاکہ چھپ جائیں
يَسْتَعْشُونَ	تِيَابَهُمْ	يُسِيرُونَ	ذَابَةٌ	مُسْتَقَرَّهَا	مُسْتَوْدَعُهَا
غ ش و	ث و ب	س ر ر	د ب ب	ق ر ر	و د ع
وہ لپیٹتے ہیں	اپنے کپڑے	وہ چمپاتے ہیں	کوئی چلنے والا	وہ ٹھیرتا ہے	وہ سونپا جاتا ہے
يَخْبِئُهُ	مَضْرُوفًا	حَاقٍ	يَسْتَهْزِئُونَ	نَزَعْنَاهَا	لَيْتُوسٍ
ح ب س	ص ر ف	ح ي ق	ه ز أ	ن ز ع	ي أ س
روک رہی ہے اسے	پھیرا جائے گا	گھیرے گی	استہزاء کر رہے تھے	چھین لیتے ہیں اسکو	تو وہ نامید
ذَهَبٌ	فَخُورٌ	تَارِكٌ	ضَائِقٌ	كَنْزٌ	افْتِرَاءٌ
ذ ہ ب	ف خ ر	ت ر ك	ض ي ق	ك ن ز	ف ر ي
دور ہو گئیں۔	فخر کرنے والا	چھوڑ دو	تنگ ہو	خزانہ	از خود بنا لیا ہے
مُفْتَرِيَاتٍ	يَسْتَجِيبُوا	يُبْخَسُونَ	حِطَّ	صَنَعُوا	الْأَخْزَابِ
ف ر ي	ج و ب	ب خ س	ح ب ط	ص ن ع	ح ز ب
بنالاء	بات قبول کریں	حق تلفی کی جاتی	برباد ہو گیا	جو کچھ کیا تھا	فرتوں میں سے
يُعْرَضُونَ	يَصُدُّونَ	عَوَجًا	يُضَاعَفُ	أَخْبَتُوا	يَسْتَوِينَا
ع ر ض	ص د د	ع و ج	ض ع ف	خ ب ت	س و ي
پیش کیے جائیں گے	روکتے ہیں	کجی	ڈگنا کیا جائے گا	عاجزی کی	دونوں برابر ہیں